

KASHMIRI

(Compulsory)

کشمیری
(لارسی)

وق : ۳

Time Allowed : Three Hours

مکرات : 300

Maximum Marks : 300

سوال ناسی متعلق خاص بہ رایتے :-

پرچھنے آئین سوال جواب دے پڑوں یہ بُرو یہ رایت نامہ غور سان۔

ساری سوال کرنے کیلئے لازمی۔

پرچھ سوال سن پھر بڑا و خو۔

پرچھنے آئین سوال نہ دی جواب تیا یو صرف گائترد پاکھو ووں تو وو

لکھ لئے جائی تو یہ رایت سی پیچھے عمل۔

کم یا زیاد لعفنی بہرنس ورتاؤں پیٹھہ زہمنی بز۔

جواب ناسی فتر گر گرد خالی آئین صفحی کراسن (x) دنیہ پن۔

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in **KASHMIRI (Kashmiri script)** unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

سوال بعرا - لوح نو کهنه درج عنوان از پیشنهاد شده تا آنکه پیشنهاد شوند ⁽⁶⁰⁰⁾

100

لقطه هند مصون -

(a) قابل تجدیر تو از آنی : امکان چیزی

(b) پیغام رسائی پندر القلاجع امیت

(c) کسبیانه هند بروت بخارت رجمات

(d) محض پیوه کهنه چن کهنه عادت هند اثر

سوال بعرا 2 - لوح نو کهنه دینه آمثربارست پرور و آمکس آخرس پیوه دنی آمتهن

$12 \times 5 = 60$

سواله هند جواب یکصو صاف ، مختصر و صحیح لقطه منز -

نو آبادیاً فی حکم ای هنری بنیاد آس آمکس بروت تعداد س منز عاصل
کرنی آمتهن مخلوماتن پیوه - بر طاینه رو دینز اقتداءی معامله درست ته
با قایید نباو نه موکعه پینن بخارت سرگرمی هند تفصیلی رکارڈ تعاوانت - پینن و دلخیه
و پینن شهرت هنری زندگی صحیح سمعت دنیه موکعه کرتو با ضابطه سرویسیه، شماریاتک
و پینا کوارکه بجهه تیه ب شمار سرکار عربیور ط کرکه شیخ -

گو ڈ پیٹھے اُس امتحانو آباد یا اتھ علوم قسم نقصیہ بناونس سمجھ دلچسپی -

امتحان علوم قسم اوس یقین زیر خود نقصیہ بھتر پڑھ تیار کرنے سمجھ دلچسپی کو اُسی ملکیں زمینی عالاتن تیر جنرا فیاضی علاقتن اُمنز عمنزی گزنهیہ - امیر قسم علم ہمیکہ امتحان علوم قسم پہنچا قبضیہ کرنی مثمن مدد گار ثابت پیدا ہجھ - پیٹھے تیر شہر و قتلخی سیئر مدد و زکوڑ رہنے تیار کرنے اُستین نقشو صرف یعنی منفوب بندی مثمن مدد بلکہ لمحہ امیر سمجھ تجارت سرگرمیں تیر ضروغ - قصیلہ نقصیہ چھ اسے پھاڑنے، در عربیا ون تیر سجنیاں مختلط چھ معلومات فراہم کرات - یہ نقصیہ چھ دفاعی نظام کو مقصد خاطر تیر سطح اُہم - امیر علاوچہ نقصیہ کا ہٹنے ہشنجاے، مکاننہ ہڈ میاڑ تیر گھنر، سطح اُہم - امیر بروہیہ کن انان -

کنونیہ حدو ہنڈا گھپل پیٹھے سترن ہند انتظامی نظام محققول تیر موثر بناویہ موح کھیہ لوگ بر طالوی

علوم قسم اُکیں ریتسی طریقیں منہ پڑھ دو ریہ میونسبیل ٹیکس لوان لشیہ وصول کرنے - کا یہہ بیاس نہ وو یقینہ موح کھیہ دو یہو تارنے آمیں ہند و تاں نن ترکیہ خدید اُمریہ - میونسبیل کار بیو ریشن ہو عاداً ایہہ ستری لوان آب اڈلشیج سرکریتہ باقیہ سیمولیت آیہہ تے مکاویہ موح کھیہ قائم کرنے - میونسبیل کار بیو ریشن یہ سرگرمیہ انجام دشیتمہ ستر اول لوان سینہر کو زندگی ہند الہ نہ و کارڈ رفر محربہ لیں میونسبیل رکارڈ مکرن مثمن حفظ مکاویہ آو -

شهريم ووه بجهه و اشربات آسخون بجهه آپه ز همچن شنيد و سونه آن
 هفتمانه - که خوبیه صدی شنیدس و سطحه تاهم مختلف علامت هنر لجه با قائمی هم پنهان
 (Censuses) بجز گو ڈیجخ کل شنید پنهان پیش ۱۸۷۲ ادیس هنر - ۱۸۸۱
 بجهه بیور کن بینو و فی حیله و هر سپنهان سایه مملک آله ایم فیجر - په مواد
 ته معلومات عاصل کرنن بیتر چه آسو پیور پاهن پست شهری منظر نامه ز آنسته بیهان

پیله ته آسو اعنه جمع کرده میشیں رکارڈس سام پهلو آسو همکو
 امه بطر معلوماته ذخیر ستو تاریخی بدلاوک و عاطه آسانه سان کرده - یعنی
 خانه اسیه بیبلن ، دادهن ته صرف مقلعه عاصل کو زیاده موادیں اسیه کنتر
 تعدادس هنر عمن ، خانه ، جنس ته پیش شد شماره بادان چه ممکن است سیز آپه آسو
 آپه لئنس هنر بجهه - سورخه موون په سوره رکارڈ گمراه کن - یعنی کرنن افت رکارڈ
 ور تاد نه بروئنه چه زانه فروی ز په کنند لجه اعنه ته کجهه بآنها آوازه بارس و په

ته چهه و هم من لازمی ز امکنه سرمه نه هنر لجه هنر س او کنن لالگیه ته
 کنه آونه -

12

سوال بىزىرىدى (ط) - نۇ آبادىيائىت حكىمانى خاڭىرلىقا زى أسىنلىقىشىءە ئىم ؟

12

سوال بىزىرىدى (ئ) - نۇ آبادىيائىت رىكارڈ سېھىتىمۇنىڭ كۈشىرى دىنگ مەمالەتكەرە ئەم ؟

12

سوال بىزىرىدى (د) - مورخىن كىيازچە يېقىن زى جۇڭىلا بېتىكىن زى پېتە وزىبە خىر ئىسىت ؟

12

سوال بىزىرىدى (د) - نۇ آبادىيائىت حكىمانى ئىنۋەر ئىلکس بالمىسى كىناھ ئىسى ؟

سوال بىزىرىدى (د) - بۇ پەكىن دىنە آمۇزىرى عبارزىنۇر خلاصە گۈزە عبارزىنۇردا ئەجىپ
آسىن - عبارزى ساپىنە ئىنوان دىن چەنە خەرۇرى - خلاصە گۈزە تىزىن
لقطىن ئىنۋەر آسىن -

60

ترقىي ئىپتەرا صەلاح چەنە ئەجىپ طورىنى صوچى سماپىن ئىلەپن
حالىنى تې بىللاون درشاۋان - اينىغان تارىخىلىك ئاس طويىل دورىن تام
او سن سماپىن ئىلەپن صورتىحال تەنە بايمى رىشىتە سىتى زانىنە لىوان ئىس انسان
سماپىن تېلىكى ئىندرى يېچى ماخولىس درەيان مائىم او سن - انسانى سماپىن
تەنە ئىندرى يېچى مايو فەزىيەل ماخولىس درەيان بايمى رىشىتە داۋدار او سن تەنە

پېلناوجى ئەدارەن پېچەيم ئۇ سماجىچە بىانىڭلاو ئەتكىزىسى - يىوئى ئەدارە
 ئەپلناوجى ئۆز سماجى ئەماحول بانە ئاڭزى زىياد زىياد ئىلىك - امىد ئىتە دراو
 زېلناوجى ئېنىرىتىقى سېرىنى سىخىتى سېرىتن سماجى بىلاو ئەدارەن بىلدۈر
 دەخۇد تىنەرەفتارى سان عملە مىنلىرىن - تىتىقى چىتە دراصل آكى ئېنىپاسلىقور -
 يەلقور جەمەت ئەتايمى سماجى، فاحولپاياتى ئەقتصادى بىلاوس پەھمەت -
 تىتىقى بىلدۈرلۇقور جەمەت سەماھەن ئەتكىزى ئەتكىزى دار - يەلقور وۇلىمۇرىمۇ
 صدى بىلدۈرلۈنىشىه دۈيلە پېچە - دۇيمە عالىى حىنگە ئەتايمى (تىتىقى)، سېرىرا صەلاقىح حەرم
 اقتصادى دەھىقە واشر بايدۇر ئاۋىنە - امىي اقتصادى دەھىقە واشر ئازىز كەزى
 قۇيۇت ئەتايمى (GNP) بىش ئەرمەن ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى
 Per Capita Gross National Product آمىرىتىچە ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى
 آمىرنە ئىياداچە ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى

دەلتىكىدۇ ئەتكىزى مەلکىن ئەتكىزى اقتصادى خالىت دار يىاه بىتىر ئەس ئەتكىزى مەن ئەتكىزى ئەتكىزى
 دەلتىكى ئەتكىزى غايرەمىسىنىڭ ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى
 growth and equity ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى
 equity ئەتكىزى
 ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى ئەتكىزى

هونه اصطلاحن باړیک پېښی سان جا شیز یې، اسرد او تو شیله یې پېښ بېټه نړۍ
 ټهډ لکھور چې ټهډ امقواري ترقی تابې محدود - اڅو منزې چې ټېليله انسانه جانه شنېر
 ټندريتی ټې لکن ټهډ زړه روزنک معيار، تعلیم ټې یکسا سینت، سیاسی ټې عوامی حقوق یېود
 پېښه شامل - ۱۹۸۰ء تاهم اوں ترقی ټهډ لکھور حرف سماجی ټې مادی ترقی پېټه یوټ له کواز -

منزېن منزې ۱۹۶۵ء دروران ماخولیاتی سلسلہ برداشت کن یېټه ستر
 آوقابل تائید (Sustainable Development) ترقی ټهډ لکھور وړیو ده - ټهډ
 نو فکر ائم صنعتي ترقی سړو ماخولیاتی آلموږګه پېټه عام لوکن پنډه ټشون شیخ نایندګ
 کران .

ماخولیاتی سلسلن پېټه یېں عالمی برادری پنځن رډ ګل یوډ ټهډه ټهډه ټهډه

گروپین الاقوام World Commission on Environment and Development (WCED)
 (اړیکم کرنې پېټه ټهډه) - اړیکمکنک سربراہ او ناد ویبیک وزیر اعظم
 ګروهلم بر نیدڑٹ لیند ټهډه
 ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه ټهډه

'WED' - 'our common future in 1987'

پہنچ دیتی اُکس سیئرڈ میں یہ جامعہ 'Sustainable Development' نام جسے
بخاریز زایں۔ ایدے پیش نہ کر لے پھر ریٹ مطالعہ آئیہ قابل تائید ترقی شہنشہ و فناخت یعنی
پائیں گے کرنے:

"ترقی گیہ کہ یہ دینہ والین نسلن شہنسہنسرس پنج سمجھوتے
کریں ورنے موجود کالے کہنے خرواریت پڑو کر"

سوال نمبر ۴ - بخوبی کہیں دنیا آمد اقتباس بچھو انجینئرنیس منز:

پیریم چند دوڑت ز کیا یہ چھو اسیہ سارے ہے اُندی اُندی منتشر
حالتس منز و ڈنہ مگر سوال چھو تم سوامیہ اونک، شیرنگ تیرت پتیب دنکا۔
اھوچھو وجہ ز پیڑھے شخص تیرچہنریں چھو بیٹھ منفرد وجودیں باقیں لش مختلف
چھو۔ پتھر کہیں چہنریں چھو ابتدا، ارلقا تیر اگریں زوالہ آسان۔ بہرخ فردیں
چھو پنتر پنتر کیانی۔ اُکی شخص پنتر کیانی چھوئی بیسیں شخصیہ پنتر کیانی ستو رلو و خیز۔ یہ
پائیو و نو اُکی شخصیں یہ سیہ زندگی پنتر داستان بالا لجرانی چھو تھے چھوئی کہیں پاسہ تیر باقیں
پنتر زندگی سیئر کا شہر سیئر۔

ئەركىشىقىن آسىرىلىنى پېتىز كىلماق بىانىتلىكىمەتتەپەتكە - مىياڭ خود نوشىت
چەپىيە مىياڭ لىلماق - بىلماق چەپىيە چەپرا مىياڭنى ذاتى سېتە تىلىق تعاونت تىرىكىنەدرس
تام باقىن پېتىز زىنگى سېخوتىر - بىتە باڭىرۇلۇز زېپەچەپىيە باقىن پېتىز كىلماق - مىياڭ لىلماق
چەپىيە مىيانىز مطابق ، مكارىقى ، سماچىچ ياخ طبىقى غايىزىگى كىرات - امىدلىسا بەچەپىيە يە باقىن
پېتىز كىلماق تەرىبانات پېتىز فەردىپېتىز زىنگى بىتەكە أکەن بىشەن اضانىت بشەنە -

پېتىز تۇرۇ قلم ئەلاڭو كەنە خالىي كاغىز ورقىسى پېتەلەمن - سارو بىر كەھوتىر
بەقىم دوزىيەر دوست تەرىپەن زىنگى پېتەقلم تۇرۇ - لەجىا بىر پېتەزىنگى ئەندەچىپەن خۇرۇلۇشىت زىنگى
تەرىپەن كەنەن ئەرسوسە بىتەكۈرۈچۈر قىچاڭ قلم بىندىكەرە - بىلەچە خود نوشىت لەپەند
مۇلىيە مۇدا تىر - خود نوشىت لەپەند بىنیادى اصول چەپەزىز تەرىپەن خەلەمۇ پېتىز عالات
حاف پاڭىرۇ دىانت داڭى ئەرەبىخان داڭى سان -

خۇد نوشىت لەپەمن چەپىيە سەل - اھىتەپەچەپىيە مەختىق خەرۇرت - اھى

پېتىز كەنەبە باكى تىر اخلاقىت چەپىيە آسىز - بىر دوست تەرىپەن نوشىت لەضىيە
سانلىكىمەتتەپەتكۈرۈز تۆتەپىتەكۈرۈپەن كەنەن يادداشت يادداشتلىكىمەتتەپەتكۈرۈز
كەنەن دوھىن يادورىن پېتىز داڭىرەلەمەن سەتەپىتەكۈرۈپەن نوشىت بىر وەھىئە كەنەن بىتە -

سوال بُرْخ 5 - حِنْدِ آمِنْتْ اَفْتِيَاْسْ پُحْرُو كَاسْتِرْسْ مُنْزْ:

Socrates was one of the celebrated Greek thinkers who became very influential in the development of Greek philosophy in particular and Western philosophy in general.

Socrates tried to bring radical changes in the society. But his attempts in the social field were not accepted and appreciated by the authorities. But convinced of his principles Socrates continued his efforts. The authorities considered him as a threat to their existence and as a result he was arrested and sent to prison. Later, he was given capital punishment because he was frank and outspoken. When he received the news of the death penalty he was not at all shaken.

It confused all the officials and even Socrates' own disciples because they had never seen a person accepting the news of his death penalty with a smiling face. When asked why so, he replied, "I have been preparing for death all my life. I have never done anything wrong to any man. That is why I am able to accept even death with a smiling face."

In his use of critical reasoning, by his unwavering commitment to truth and through the vivid example of his own life, Socrates set the standard for all subsequent Western philosophy.

سوال بُرْخ 6، ۱۰ - حِنْدِ آمِنْ باَدْهِنْ بَأْمُورْ نَادِيْ فْ تَيْرُو تَأْوِيلُو جَلْمَنْ مُنْزْ:

2

صِيَغْرِيْك (i)

2

تَرْبِيْك (ii)

2

تُسْنِد (iii)

2

كَرْبُسْت (iv)

2

وَلِيْغَرْجُوْ (v)

سوالہ نمبر ۶ (2×5=10) یہ مركب نام فردا در تأثیر کو جملے منتسب ہے پہنچ منی واضح پسروں:

2 کھینچنے ہیں (i)

2 دو حصے بین (ii)

2 مشریع مرد (iii)

2 تا پھر شمل (iv)

2 شہر کام (v)

سوالہ نمبر ۷ (2×5=10) یہن لفظی لیکھ منی تر بناؤ لیو کو جملے:

2 پیش فر (i)

2 دعہ کاڑ (ii)

2 پھر پار بخ (iii)

2 مشترکہ (iv)

2 مینہ رے (v)

سوال نمبر ۶ (d) - دنیا آسٹریلیا میں ہندو منی یا تھریڑ و رناؤ کی کمپنی میں نظر: $2 \times 5 = 10$

2

ستھوڈتھن^و (i)

2

گاش راوٹ^و (ii)

2

مند پن شام گزھن^و (iii)

2

پڑات تڑا وڑ^و (iv)

2

اھٹھ کھور نہ لگن^و (v)